



Soneri Bank

ڈپازٹ پروڈکٹس کے لئے حقائق پر مبنی اہم بیان (01 جولائی 2026 سے مؤثر)

برائچ		اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیمنٹس کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔					
شہر		اکاؤنٹ کی اقسام اور فائیاں خصوصیات: بہ معلومات مذکورہ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور مارک اپ ریٹ ششماہی بنیاد پر تبدیل کے خباہتے ہیں اور اس سے آپ کو مطلع کیا جاسکتا ہے۔ ہماری معیاری فیس / چارجز کے لئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا ہماری برائچ ڈسٹ کر سکتے ہیں۔					
تفصیلات		سیونگر اکاؤنٹس					
		سہارا (سینئر سٹیورن)	پی ایل ایس سیونگر / لمیشنڈ	سونیری سیونگر	روشن سیونگر اکاؤنٹ	آسان	یچھڑ ماہندر سیونگر
کرمی		پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم پیمنٹس		کھولنے کیلئے	0 روپے	100 روپے	1,000 روپے	0 روپے	100 روپے
		برقرار رکھنے کیلئے	0 روپے	0 روپے	ماہانہ اوسط 5,000 روپے	0 روپے	0 روپے
اکاؤنٹ کی مینٹیننس فیس		0 روپے	0 روپے	50 روپے بشمول ایف ای ڈی	0 روپے	0 روپے	0 روپے
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاسکتا ہے (متبادل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے)		ہاں					
منافع بخش اشارے		10.00%	10.00%	10.00%	10.10%	10.00%	10.10%
منافع کی ادائیگی کی تعداد		ماہانہ	ششماہی	ماہانہ	سہ ماہی	ماہانہ	ماہانہ
مثلاً (1000 روپے پہ آپ متعین کردہ مدت میں --- روپے کما سکتے ہیں)		Rs. 8.33/-	Rs. 50/-	Rs. 8.33/-	Rs. 25.25/-	Rs. 50/-	Rs. 8.41
قبل از وقت / جلد انکیشنٹ / اخٹلا کی فیس		متبادل اطلاق نہیں					



Soneri Bank

سروس چار جیز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چار جیز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چار جیز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com پر دیکھ سکتے ہیں۔
برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چار جیز متبادل اطلاق میسرز کے علاوہ ہیں۔

سروسز		اقسام		سیونگر اکاؤنٹس	
سروسز		اقسام		سیونگر اکاؤنٹس	
تقدیم دین	انٹرسٹی	سہارا (سینئر سیزن)		سوفری سیونگر	آسان
	انٹرسٹی	پی ایل ایس سیونگر / پیمنٹرز		روشن سیونگر اکاؤنٹ	یگھڑز ماسٹر سیونگر
	بینک کے اے ٹی ایم سے ودڈراؤل	پی ایل ایس سیونگر / پیمنٹرز		0 روپے	
	دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے ودڈراؤل	پی ایل ایس سیونگر / پیمنٹرز		0 روپے	
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	پی ایل ایس سیونگر / پیمنٹرز		0 روپے	
ایس ایم ایس ایس	دیگر ٹرانزیکشنز کے لئے	35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	
		افراد کے ذاتی اکاؤنٹس PKR اور ایف سی وائے - 300 روپے ماہانہ		0 روپے	
		USD 0.80 / ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائے		0 روپے	
		تمام کاروباری اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول واحد - مکملت PKR اور ایف سی وائے - 500 روپے فی مہینہ		0 روپے	
		USD 1.75 / ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائے		0 روپے	
ڈیف کارڈ (سلاٹ چار جیز)	پے پاک	3,000/- روپے		0 روپے	
	ماسٹر کارڈ	3,000/- روپے		0 روپے	
	اسٹینڈرڈ	4,000 روپے		0 روپے	
	ماسٹر کارڈ گولڈ	4,000 روپے		0 روپے	
	ماسٹر کارڈ پلاٹینم	5,000 روپے		0 روپے	
چیک بک	پر انٹری	10,000 روپے		0 روپے	
	سپلیمنٹری	6,500 روپے		0 روپے	
	احبراء	30 روپے فی لینڈ		0 روپے	
	اسٹاپ بینٹ	کم از کم 800 روپے فی چیک		0 روپے	
	(چیک بک کی نقلی کے چار جیز)	زیادہ سے زیادہ 1,600 روپے فی ہدیت (کئی چیکس کی صورت میں)		0 روپے	
ترسیلات زر (معتادی)	بینکرز چیک / پے آرڈر	بینکرز چیک - 550 روپے فی انسرومنٹ		0 روپے	
	فنانس ڈیسکٹ ڈرافٹ	20 ڈالر یا مساوی بشمول سوئفٹ چار جیز		0 روپے	
	واٹر فراغٹر	45 ڈالر یا مساوی بشمول سوئفٹ چار جیز		0 روپے	
	پاکستانی روپیہ اکاؤنٹ کیلئے FTT/FDD کے	0.10% یا کم از کم - 1,000 روپے		0 روپے	
	احبراء کے سروس چار جیز	0.10% یا کم از کم - 1,000 روپے		0 روپے	
اکاؤنٹ کی اسٹینڈ	سالانہ / ششماہی	35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی (بشمول ایف ڈی) ہر 6 ماہ میں		0 روپے	
	فصل	35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی ہر 6 ماہ کیلئے وصول کے حساب میں		0 روپے	
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	0 روپے		0 روپے	
	آئی ٹی ایف ٹی	25,000 روپے ماہانہ تک - 0 روپے / 25,000 روپے سے زیادہ 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	
	فون / موبائل / انٹرنیٹ بینکنگ	0 روپے		0 روپے	
فٹنڈز فراغٹر	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	0 روپے		0 روپے	
	آئی ٹی ایف ٹی	25,000 روپے ماہانہ تک - 0 روپے / 25,000 روپے سے زیادہ 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	
	فون / موبائل / انٹرنیٹ بینکنگ	0 روپے		0 روپے	
	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	0 روپے		0 روپے	
	آئی ٹی ایف ٹی	25,000 روپے ماہانہ تک - 0 روپے / 25,000 روپے سے زیادہ 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	
ڈیجیٹل بینکنگ	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	0 روپے		0 روپے	
	آئی ٹی ایف ٹی	25,000 روپے ماہانہ تک - 0 روپے / 25,000 روپے سے زیادہ 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	
	فون / موبائل / انٹرنیٹ بینکنگ	0 روپے		0 روپے	
	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کمپیوٹرنگ	0 روپے		0 روپے	
	آئی ٹی ایف ٹی	25,000 روپے ماہانہ تک - 0 روپے / 25,000 روپے سے زیادہ 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)		0 روپے	

سروس چار جبر						
اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چار جبر کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چار جبر شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔						
برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چار جبر متاثر اہل اسباق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔						
سروسز	اقام	سیونگر اکاؤنٹس				
		سہارا (سینٹر سٹیشن)	پی ایل ایس سیونگر/پیشزد	سوسیری سیونگر	روشن سیونگر اکاؤنٹ	یگھڑز ماسٹر سیونگر
کلیرنگ	نارمل	0 روپے				
	انٹرسٹی	400 روپے فی انسٹرومنٹ				
	اسی دن	600 روپے فی انسٹرومنٹ				
اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست	0 روپے				

لازمی معلوم ہونا چاہئے	
اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی مندرجہ ذیل تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ چیک باؤنس: بے ایمانی سے چیک کا احبرا پاکستان بینل کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق مجرممانہ غفلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔ سیف کڈی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے نولز کی محفوظ تحویل جیسے ڈیپٹ کاڈز، پن کوڈز، چیکس، ای بینکنگ یوزر نیمز، پاس ورڈز، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سکیورٹی خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سوئیر بینک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔ ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم مواصلات کی محرومی سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے پاس موجود پروفائلز / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔	اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے (یعنی کوئی ڈیپٹ یا کریڈٹ ٹرانزیکشن یا ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے لاگ ان نہیں) تو اسے غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے، تو آپ کو کسی بھی ڈیپٹ ٹرانزیکشن/ واپسی کی اجازت نہیں جائے گی۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کیلئے، آپ کو بینک کے ریکارڈ میں رجسٹرڈ ذرائع/ چینلز اور تمام قابل اطلاق بینک کی ضروریات کو پورا کرنے کے ذریعے بینک کو باقاعدہ طور پر پھرتی ہوئی اور متعلقہ شدہ درخواست جمع کرانا ہوگی۔ پشٹن اکاؤنٹ کے معاملے میں، اگر آپ ہرچھ ماہ کے بعد بائیومیٹرک تصدیق یا الٹ سرٹیفکیٹ فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا لگاتار چھ ماہ تک پشٹن کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا پشٹن اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ فیملی پشٹن (بیوہ/ بیٹی/ بہن) کے معاملے میں، اگر آپ ہر سال 30 ستمبر کو اس سے پہلے غیر شادی شدہ اعلامیہ جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں تو، آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔
میں حق اٹھانے پر مستثنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں	
کسٹمر کا نام	تاریخ
منتخب شدہ پروڈکٹ	
اکاؤنٹ میٹریسٹ	
پتہ	
برائے رابطہ	ای میل ایڈریس
کسٹمر کے دستخط	تصدیق شدہ دستخط

نوٹ: صارف کو ریکارڈ اور معلومات کیلئے ایک نقل فراہم کی جائے گی۔